

Psa

Chapter 41

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 לְמִנְצַח מוֹסִיפָר-כֵּן לְמִנְצַח מוֹסִיפָר-כֵּן לְמִנְצַח מוֹסִיפָר-כֵּן לְמִנְצַח מוֹסִיפָר-כֵּן
موسیقار-کے لئے زبور مبارک کی طرف غریب دن-میں بُرے چھڑائے-گا-اُسے
H5329 H4210 H1732 H0835 H0413 H1800 H3117 H4422

יְהוָה:
یہوواہ
H3068

گا۔ دے چھٹکارا اُسے رب دن کے مصیبت ہے۔ رکھتا خیال کا حال پست جو وہ ہے مبارک لئے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا داؤد

2 יְהוָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה
یہوواہ محفوظ-رکھے-گا-اُسے اور-زندہ-رکھے-گا-اُسے اور-مبارک-بو-گا اور-مبارک-بو-گا اور-مبارک-بو-گا اور-مبارک-بو-گا اور-مبارک-بو-گا
H3068 H8104 H2421 H0833 H0776 H0408 H5414

בְּנַפְשׁוֹ
جان-میں
H5315
אֲשֶׁר
اُس-کے-دشمنوں-کی
H0341

گا۔ کرے نہیں حوالے کے لالچ کے دشمنوں کے اُسے کر دے برکت اُسے میں ملک وہ گا، رکھے محفوظ کو زندگی کی اُس کے کر حفاظت کی اُس رب

3 יְהוָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה יְשׁוּעָה
یہوواہ سہارا-دے-گا-اُسے پر بستر بیماری-کے سارا اُس-کا-بستر اُسے-بدل-دیا اُس-کی-بیماری-میں
H3068 H5582 H6210 H1741 H3605 H4904 H2015 H2483

گا۔ کرے بحال طرح پوری صحت کی اُس اُسے۔ سنبھالے پر بستر کو اُس رب وقت کے بیماری

4 אֲנִי-אֲמַרְתִּי יְהוָה מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד
میں میں-نہ-کہا یہوواہ مجھ-پر-رحم-کر شفا-دے میری-جان-کو کیونکہ میں-نہ-گناہ-کیا تیرے-خلاف
H0589 H0559 H3068 H7495 H5315 H2398

ہے۔ کیا گناہ ہی تیرا نے میں کیونکہ دے، شفا مجھے کر! رحم پر مجھ رب، اے بولا، میں

5 אֲנִי-אֲמַרְתִּי יְהוָה מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד
میرے-دشمن کہتے-ہیں بُرا میرے-لئے کب مرے-گا اور-مٹے-گا اُس-کا-نام
H0341 H0559 H4970 H4191 H0006 H8034

گا؟ مٹے کب نشان و نام کا اُس گا؟ مرے کب وہ ہیں، کہتے کے کر باتیں غلط میں بارے میرے دشمن میرے

6 אֲנִי-אֲמַרְתִּי יְהוָה מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְمַד מִי-נֶעְמַד מִי-נֶעְמַד
اور-اگر آیا دیکھنے-کے-لئے جھوٹ بولتا-ہے اُس-کا-دل جمع-کرتا-ہے بدکاری اپنے-لئے نکلتا-ہے باہر
H0935 H7200 H7723 H1696 H6908 H0205 H3318 H2351

יְדַבֵּר:
بولتا-ہے
H1696

میں گلیوں کر جا باہر میں بعد جنہیں ہے کرتا جمع معلومات وہ نقصان ایسی وہ پردہ ہیں ہے۔ بولتا جھوٹ دل کا اُس تو اُسے ملنے سے مجھ کوئی کہی جب سکے پھیلا

7	יָחַד	עָלַי	יִתְלַחֲשׁוּ	כָּל-	שָׁנְאֵי	וְעָלַי	יִחְשְׁבוּ	רָעָה
	ایک-ساتھ	میرے-خلاف	سرگوشی-کرتے-ہیں	سب	مجھ-سے-نفرت-کرنے-والے	میرے-خلاف	سوچتے-ہیں	بُرائی
			H3907	H3605	H8130		H2803	

لَی:
میرے-لئے

ہیں، کہتے کر باندھ منصوبے بُرے خلاف میرے وہ ہیں۔ یہ سہساتے خلاف میرے میں آپس سب والے کرنے نفرت سے مجھ

8	דָּבַר-	בְּלֵיֵל	יָצוּק	בּוֹ	וַאֲשֶׁר	שָׂכַב	לֹא-	יוֹסִיף	לָקוּם:
	بات	بُری-کی	ذالی-گئی-ہے	اُس-میں	اور-جو	لیٹا	نہیں	بھر-اُٹھے-گا	اُٹھنے-کے-لئے
	H1697	H1100	H3332		H7901	H3808		H3254	

گا۔ اُٹھے نہیں دوبارہ سے پر بستر اپنے کبھی وہ ہے۔ گیا لگ مرض مہلک اُسے

9	גַּם-	אִישׁ	אִשְׁלֹמֹי	אֲשֶׁר-	בְּטַחֲתִי	בּוֹ	אֹכְלֵל	לֶחְמִי	הִנְדִּיל
	بھی	آدمی	میرے-سلامتی-کا	جس-پر	میں-نے-بھروسا-کیا	اُس-پر	کھانے-والا	میری-روٹی	بڑائی-کی
	H1571	H0376	H7965		H0982		H0398	H3899	H1431

عָלַי
میرے-خلاف
ایڑی
[H6119](#)

ہے۔ اُٹھائی لات پر مجھ نے اُس تھا، کھاتا روٹی میری جو اور تھا کرتا اعتماد میں پر جس ہے۔ بوا کھڑا اُٹھ خلاف میرے بھی دوست میرا

10	וְאַתָּה	יְהוָה	חַנּוּנִי	וְהַקִּימוּנִי	וְאַשְׁלֹמָה	לָהֶם:
	اور-تُو	یہوواہ	مجھ-پر-رحم-کر	اور-مجھے-اُٹھ	اور-بدلہ-دوں-گا	انہیں
	H3068				H1992	

سکوں۔ دے بدلہ کا سلوک کے اُن انہیں تاکہ کر کھڑا اُٹھا دوبارہ مجھے کرا! مہربانی پر مجھ رب، اے تُو لیکن

11	בְּזֹאת	יִדְעֵתִי	כִּי-	חַפְצָתִי	כִּי	כִּי	לֹא-	יָרִיעַ	אֵיכִי	עָלַי:
	اِس-سے	میں-نے-جانا	کہ	تُو-خوش-ہوا	مجھ-سے	کہ	نہیں	فتح-کا-نعرہ-لگائے-گا	میرا-دشمن	مجھ-پر
	H2063	H3045			H3808			H7321	H0341	

لگاتا۔ نہیں نعرے کے فتح پر مجھ دشمن میرا کہ ہے خوش سے مجھ تُو کہ ہوں جانتا میں سے اِس

12	וְאַנִּי	בְּתִמְנִי	תִּמְנֹכֶתִי	כִּי	וְתַצִּיבֵנִי	לְפָנֶיךָ	לְעוֹלָם:
	اور-میں	اپنی-دیانتداری-میں	تُو-نے-سنبھالا-مجھے	مجھے	اور-قائم-کیا-مجھے	اپنے-سامنے	بمیشہ-کے-لئے
	H0589	H8537	H8551		H5324	H6440	H5769

ہے۔ کیا کھڑا حضور اپنے لئے کے ہمیشہ اور رکھا قائم باعث کے داری دیانت میری مجھے نے تُو

13	בְּרוּךְ	וְיְהוָה	אֱלֹהֵי	יִשְׂרָאֵל	מִהְעוֹלָם	וְעַד	הָעוֹלָם	אָמֵן	וְאָמֵן:
	مبارک-ہے	یہوواہ	خدا	اسرائیل-کا	ازل-سے	اور-تک	ابد	آمین	اور-آمین
	H1288	H3068	H0430	H3478	H5769	H5704	H5769	H0543	H0543

آمین۔ پھر آمین، ہو۔ تمجید کی اُس تک ابد سے ازل ہے۔ خدا کا اسرائیل جو ہو حمد کی رب